

سوال

میں مہر کے متعلق اسلامی نظریہ معلوم کرنا چاہتا ہوں ، کہ کیا اسلام مہر کی اجازت دیتا ہے یا کہ یہ ایک غلطی شمار ہوگی ، اور جب یہ غلطی ہو تو پھر اس شخص کو کیا کرنا چاہیے جو پہلے مہر حاصل کرچکا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

دین اسلام میں مہر بیوی کا خصوصی حق ہے جو صرف اور صرف بیوی پورا مہر حاصل کرے گی جو کہ اس کے حلال ہے ، لیکن کچھ ممالک میں یہ معروف ہے کہ مہر میں بیوی کا کوئی حق نہیں ، یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے -

عورت کو مہر کی ادائیگی کے وجوب کے بہت سے دلائل ہیں جن میں سے کچھ ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں :

ارشادی باری تعالیٰ ہے :

اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو النساء (4) -

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نحلہ سے مہر مراد ہے -

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کی کلام میں کہتے ہیں:

مرد پر واجب ہے کہ وہ واجبی طور پر بیوی کو مہر ادا کرے اور یہ اسے راضی و خوشی دینا چاہیے -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مقام پر کچھ اس طرح فرمان ہے :

اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی تم نے خزانہ کا خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو ، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے ، تم اسے کیسے لے لو گے ،

حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے النساء (20) -

(21) -

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں :

یعنی جب تم کسی بیوی کو چھوڑنا چاہو اور اس کے بدلے میں کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہو تو پہلی کو دیے گئے مہرمیں سے کچھ بھی واپس نہ لو چاہے وہ کتنا بڑا خزانہ ہی کیوں نہ ہو ، کیونکہ مہر تو اس ٹکڑے کے بدلے میں ہے (یعنی جس کی وجہ سے اس سے ہم بستری جائز ہوئی ہے) -

اوراسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے :

تم اسے کس طرح لے سکتے ہو حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل (ہم بستری کر) چکے ہو اورمیثاق غلیظ عہد وپیمانہ اورعقد ہے -

حدیث شریف میں ہے کہ :

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان پر زرد رنگ کے نشان تھے ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا تھیں انہوں نے بتایا کہ ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے :

مہر کتنا دیا ہے ؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک گٹھلی کھجور کے برابر سونا ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے : ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی - صحیح بخاری حدیث نمبر (4756) -

اورمہر صرف لڑکی کا حق ہے اس کے والد یا کسی اورکے لیے اس میں سے کچھ لینا جائز نہیں لیکن اگر لڑکی خود ہی راضی خوشی دے دے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں -

ابوصالح کہتے ہیں کہ مرد جب اپنی لڑکی کی شادی کرتا تو اس کی مہر خود لے لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا اور یہ آیت نازل فرمائی :

اورعورتوں کو ان کے مہرراضی خوشی ادا کرو - تفسیر ابن کثیر -

اوراسی طرح اگر بیوی خاوند کو اپنے مہر میں سے کچھ معاف کرتے ہوئے اسے دیتی ہے تو خاوند اسے لے سکتا ہے اور وہ اس کے لیے حلال ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اوراگر وہ تمہیں اپنی مرضی سے خوش ہوکر کچھ معاف کردیں تو اسے راضی خوشی کھاؤ النساء (4) -

واللہ اعلم .